

يَا أُخْتِ هَارُونَ

yA xukhta hArUna

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا

mA kAna xabUki –mraxa sawxin

وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا (28)

wa mA kAnat xummuki baghiyyanA (28)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ

fa xashArat xilayhi KAIU kayfa nukallimu

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29)

man kAn fi –lmahdi SabiyyanA (29)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

Kala xinnI qabdu –lLAhi

آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30)

xAtAnI –lkitAba wa jaqalanI nabiyyanA (30)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ

wa jaqalanI mubarakanA xayna mA kuntu

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

wa xawSanI bi –SSalAti wa –zzakAti

مَا دُمْتُ حَيًّا (31)

mA dumtu cayyanA (31)

وَبِرًّا بَوَالِدَيْ

wa barran bi wAlidatI

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32)

wa lam yajqalanI jabbAranA shaKiiyyanA (32)

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

wa –ssalAmu qalayya yawma wulidtu

وَيَوْمَ أَمُوتُ

wa yawma xamUtu

وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33)

wa yawma xubqathu cayyanA (33)

**Remark:** The Tanween {anA} at end of nouns is pronounced {an} or {A} at stops.